

حوالہ کتب

یعنی

چہل حدیث

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ

(مفتی اعظم پاکستان)

جناب نبی کریم ﷺ کے ارشادات کی روشنی میں اعلیٰ اخلاق اور تہذیب و تمدن کے زریں اصول جن کو یاد کر کے ہر مسلمان بالخصوص مدارس / اسکول کے طلبہ و طالبات ان شاء اللہ قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں شامل ہو سکے ہیں۔

مع

چہل اور پندرہ

از افادات:

حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمہ اللہ

مکتبہ الرشیدی

کراچی - پاکستان

أعطيتُ جوامع الكلم (الحديث)

جوامع الكلم

یعنی

چہل حدیث

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ

(مفتی اعظم پاکستان)

جناب نبی کریم ﷺ کے ارشادات کی روشنی میں اعلیٰ اخلاق اور تہذیب و تمدن کے زیر اصول جن کو یاد کر کے ہر مسلمان بالخصوص مدارس / اسکول کے طلبہ و طالبات ان شاء اللہ قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔

مع

چہل ادعیہ مسنونہ

از افادات: حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ



کتاب کا نام : **جامع الکلمہ یعنی چہل حدیث**

مؤلف : حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ

تعداد صفحات : ۲۴

قیمت برائے قارئین : =/۳ روپے

اشاعت اول : ۱۴۳۱ھ / ۲۰۱۰ء

اشاعت جدید : ۱۴۳۲ھ / ۲۰۱۱ء

ناشر : **مکتبۃ البشرا**

چوہدری محمد علی چیرٹھیل ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

Z-3، اورسینر بنگلوز، گلستان جوہر، کراچی۔ پاکستان

فون نمبر : +92-21-7740738، +92-21-34541739

فیکس نمبر : +92-21-4023113

ویب سائٹ : www.ibnabbaaisha.edu.pk

www.maktaba-tul-bushra.com.pk

ای میل : al-bushra@cyber.net.pk

ملنے کا پتہ : **مکتبۃ البشرا، کراچی۔ پاکستان** +92-321-2196170

مکتبۃ الحرمین، اردو بازار، لاہور۔ پاکستان +92-321-4399313

المصباح، ۱۶- اردو بازار، لاہور۔ پاکستان +92-42-7124656, 7223210

بک لینڈ، سٹی پلازہ کالج روڈ، راولپنڈی۔ پاکستان +92-51-5773341, 5557926

دار الإخلاص، نزد قصبہ خوانی بازار، پشاور۔ پاکستان +92-91-2567539

مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ، کوئٹہ۔ پاکستان +92-91-2567539

اور تمام مشہور کتب خانوں میں دستیاب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ ”جو شخص میری امت کے فائدے کے واسطے دین کے کام کی چالیس حدیثیں سنائے گا اور حفظ کرے گا، خدا تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائے گا اور فرمائے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔“^۱ اس عظیم الشان ثواب کے لئے سینکڑوں علمائے امت نے اپنے اپنے طرز پر چہل حدیث لکھیں جو مقبول و مفید عام ہوں۔

میری حیثیت اور حوصلہ سے بہت زیادہ تھا کہ اس میدان میں قدم رکھتا، لیکن جب آنحضرت ﷺ کی مختصر سوانح حیات سیرت خاتم الانبیاء اس غرض سے لکھی کہ مبتدیوں اور عورتوں کو پڑھائی جائے، تو مناسب معلوم ہوا کہ آخر میں کچھ احادیث کے مختصر جملے بھی درج کئے جائیں جن کو مبتدی بھی یاد کر سکیں۔

۱۔ رواہ ابن عدی عن ابن عباس ؓ، وابن النجار عن أبي سعيد ؓ. كذا في الجامع الصغير .

۲۔ حفظ حدیث کے دو طریق ہیں: ۱۔ زبانی یاد کر کے لوگوں کو پہنچادے، یا ۲۔ لکھ کر شائع کر دے۔ اس لئے وعدہ حدیث میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو چہل حدیث طبع کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس صورت میں چہل حدیث کا ہر نسخہ اس عظیم الشان ثواب کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اس قدر سہل الوصول اور عظیم الشان ثواب سے بھی اگر کوئی محروم رہے تو اس کی قسمت۔

۳۔ قال الإمام النووي ؒ في أول أربعين حديثه: ”قد روينا عن علي و ابن مسعود و معاذ بن جبل و أبي الدرداء و ابن عمر و ابن عباس و أبي هريرة و أبي سعيد الخدري ؓ، من طرق كثيرة بروايات متنوعة أن رسول الله ﷺ قال: من حفظ على أمتي أربعين حديثاً...“ واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف الخ.

وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص: روي من ثلاثة عشر من الصحابة ؓ. كذا في مقدمة لامع الدراري شرح البخاري ص ۱۵۴.

اس ذیل میں خیال آیا کہ پوری چالیس حدیثیں کر دی جائیں تاکہ اس کے یاد کرنے والے چہل حدیث کے عظیم الشان ثواب کے بھی مستحق ہو جائیں اور شاید ان کی برکت سے یہ سراپا گنہگار بھی ان بزرگوں کے خدام میں شمار ہو جائے۔

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بَعِزٌ

تنبیہ:

- ۱۔ یہ احادیث سب نہایت صحیح اور قوی، بخاری و مسلم کی حدیثیں ہیں۔
- ۲۔ چونکہ آج کل عام طور پر مسلمانوں کی اخلاقی حالت زیادہ تباہ ہوتی جا رہی ہے اور بچپن میں تعلیم اخلاق مؤثر بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لئے اکثر احادیث وہی درج کی ہیں جو اعلیٰ اخلاق اور تہذیب و تمدن کے زریں اصول ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ۱- **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ**. [بخاری و مسلم] سارے عمل نیت سے ہیں۔
- ۲- **حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ**. [بخاری و مسلم، ترمذی] مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی مزاج پرسی کرنا، جنازہ کے ساتھ جانا، اس کی دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب یُوْحَمُّكَ اللَّهُ کہہ کر دینا۔
- ۳- **لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ**. [بخاری و مسلم] اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔
- ۴- **لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ**. [بخاری و مسلم] چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔
- ۵- **لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ**. [بخاری و مسلم] رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔
- ۶- **الظُّلْمُ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**. [بخاری و مسلم] ظلم ظلمتوں میں ہوگا۔
- ۷- **مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبِيِّنَ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ**. [بخاری و مسلم] ٹخنوں کا جو حصہ پانجامہ کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔

۱ یعنی ابھی نیت سے اچھے اور بُری نیت سے بُرے ہو جاتے ہیں۔

مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ

کی ایذا سے مسلمان محفوظ رہیں۔

جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری

بھلائی سے محروم رہا۔

پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے

بلکہ پہلوان وہی شخص ہے جو غصہ کے وقت

اپنے نفس پر قابو رکھے۔

جب تم حیانہ کرو تو جو چاہے کرو۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب عملوں میں وہ

زیادہ محبوب ہے جو دائمی ہو، اگرچہ تھوڑا ہو۔

اس گھر میں (رحمت کے) فرشتے نہیں

آتے جس میں کتیا یا تصویریں ہوں۔

تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ

محبوب ہے جو زیادہ خلیق ہو۔

دنیا مسلمان کے لئے قید خانہ اور کافر کے

لئے جنت ہے۔

۸۔ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ

لِسَانِهِ وَيَدِهِ. [بخاری و مسلم]

۹۔ مَنْ يُحْرَمَ الرَّفْقَ يُحْرَمَ

الْخَيْرَ كُلَّهُ. [مسلم]

۱۰۔ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا

الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ

الْغَضَبِ. [بخاری و مسلم]

۱۱۔ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا

شِئْتَ. [بخاری و مسلم]

۱۲۔ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ

أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ. [بخاری و مسلم]

۱۳۔ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ

كَلْبٌ أَوْ تَصَاوِيرٌ. [بخاری و مسلم]

۱۴۔ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ

أَخْلَاقًا. [بخاری و مسلم]

۱۵۔ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ

الْكَافِرِ. [بخاری و مسلم]

۱۔ یعنی جب حیاتی نہیں تو ساری برائیاں برابر ہیں۔

- ۱۶۔ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. [بخاری و مسلم]
- مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے۔
- ۱۷۔ لَا يُلْدَغُ الْمَرْءُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ. [بخاری و مسلم]
- انسان کو ایک ہی سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاسکتا۔^۱
- حقیقی غنا دل کا غنا ہوتا ہے۔
- ۱۸۔ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ. [بخاری و مسلم]
- ۱۹۔ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ. [بخاری]
- دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا رہگزر رہتا ہے۔^۲
- ۲۰۔ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. [مسلم مشکوٰۃ]
- انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے (بغیر تحقیق کے) لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔
- ۲۱۔ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُؤُاِبِيَّهِ. [بخاری و مسلم]
- آدمی کا چچا اس کے باپ کے مانند ہے۔
- ۲۲۔ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [بخاری و مسلم]
- جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا۔

^۱ یعنی جس سے ایک مرتبہ نقصان پہنچتا ہے پھر دوبارہ اسکے پاس نہیں جاتا۔ ^۲ یعنی زیادہ ٹھاٹھ نہ بناؤ۔

وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا، اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی۔

سب سے سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے۔
مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے۔

کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ رہے۔

میں آخری پیغمبر [ﷺ] ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

آپس میں قطع تعلق نہ کرو، اور ایک دوسرے کے درپے نہ ہو، اور آپس میں بغض نہ رکھو، اور حسد نہ رکھو۔ اور اے اللہ کے بندو! سب بھائی ہو کر رہو۔

۲۳۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ.

[مسلم]

۲۴۔ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ.

[بخاری و مسلم]

۲۵۔ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ.

[مسلم]

۲۶۔ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

[بخاری و مسلم]

۲۷۔ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَاقِعَهُ.

[مسلم]

۲۸۔ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي.

[بخاری و مسلم]

۲۹۔ لَا تَقَا طَعُورًا وَلَا تَدَابِرُورًا، وَلَا تَبَا غَضُورًا، وَلَا تَحَاسِدُورًا. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

[بخاری]

اسلام تمام گناہوں کو ڈھادیتا ہے جو پہلے کئے تھے، اور ہجرت اور حج ان تمام گناہوں کو ڈھادیتے ہیں جو اس سے پہلے کئے تھے۔

۳۰۔ إِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَإِنَّ الْهَجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ.

[مسلم، مشکوٰۃ]

کبیرہ گناہ: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک انا، اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور کسی کو بے گناہ قتل کرنا، اور جھوٹی شہادت دینا ہیں۔

۳۱۔ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعَقْوُقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ.

[بخاری و مسلم، از مشکوٰۃ]

جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑائے گا۔

۳۲۔ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

اور جو شخص کسی مفلس غریب پر (معاملہ میں) آسانی کریگا اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کریگا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔

وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

[مسلم، از مشکوٰۃ]

۳۳۔ كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. [مسلم] ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔

۳۴۔ أَبْغَضُ الرِّجَالِ عِنْدَ اللَّهِ
الَّذِي الْخَصِمُ. [بخاری و مسلم] اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض
جھگڑالو آدمی ہے۔

۳۵۔ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ.
[مسلم] پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔

۳۶۔ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ
مَسَاجِدُهَا. [مسلم] اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ
مسجدیں ہیں۔

۳۷۔ لَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ.
[مسلم] قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔

۳۸۔ لَتَسَوْنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ
لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ.
[مسلم] نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ
تمہارے قلوب میں اختلاف ڈال دے گا۔

۳۹۔ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا. [مسلم] جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس
پر دس مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔

۴۰۔ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيِّبِ.
[بخاری و مسلم] سب اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے۔

چہل ادعیہ مسنونہ

صبح کو یہ دعا پڑھے

اے اللہ! تیری ہی قدرت سے ہم صبح کے وقت میں داخل ہوئے، اور تیری ہی قدرت سے ہم شام کے وقت میں داخل ہوئے، اور تیری ہی قدرت سے ہم جیتے اور مرتے ہیں، اور تیری ہی طرف جانا ہے۔
(ترمذی: ۳۳۹۱)

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ
أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ
نَمُوتُ وَبِكَ الْمَصِيرُ

سورج نکلے تو یہ دعا پڑھے

سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے آج ہمیں معاف رکھا اور گناہوں کے سبب ہمیں ہلاک نہ فرمایا۔
(مسلم: ۱۹۱۱)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقَالَنا
يَوْمَنَا هَذَا وَلَمْ يَهْلِكْنَا
بِذُنُوبِنَا

شام کو یہ دعا پڑھے

اے اللہ! ہم تیری ہی قدرت سے شام کے وقت میں داخل ہوئے، اور تیری ہی قدرت سے صبح کے وقت میں داخل ہوئے، اور تیری ہی قدرت سے جیتے اور مرتے ہیں، اور مرے پیچھے جی اٹھ کر تیری ہی طرف جانا ہے۔
(ترمذی: ۳۳۹۱)

اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ
أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ
نَمُوتُ وَبِكَ النُّشُورُ

صبح اور شام کی ایک خاص دعا

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ ہر

صبح و شام تین مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کرے تو اسے کوئی چیز ضرر نہ پہنچائے گی۔ دوسری روایت میں ہے کہ اسے کوئی ناگہانی بلا نہ پہنچے گی۔ کلمات یہ ہیں:

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ
اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي
السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .
والا ہے۔ (ترمذی: ۳۳۸۸)

سوتے وقت پڑھنے کی چیزیں

جب سونے کا ارادہ کرے تو وضو کر لیوے اور اپنا بستر جھاڑ لیوے۔ پھر دعا بتی کروٹ پر لیٹ کر سر کے نیچے داہنا ہاتھ رکھ کر تین بار یہ پڑھے:

اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ
تَبَعْتُ عِبَادَكَ .
اے اللہ! مجھے اپنے عذاب سے بچائیو
جس روز تو اپنے بندوں کو جمع فرمائے گا۔
(ابوداؤد: ۵۰۳۵)

یابہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا . اے اللہ! میں تیرا ہی نام لے کر مرتا اور جیتتا ہوں۔
(بخاری: ۶۳۱۳)
اور سوتے وقت یہ بھی پڑھے: سُبْحَانَ اللَّهِ ۳۳ بار، الْحَمْدُ لِلَّهِ ۳۳ بار،
(بخاری: ۶۳۱۸)

جب سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا سبَّ تَعْرِيفِيں خدایہی کے لئے ہیں جس نے ہمیں

بَعْدَ مَا آمَاتْنَا وَإِلَيْهِ الشُّوْرُ. موت دے کر زندگی بخشی اور ہم کو اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ (بخاری: ۶۳۱۳)

جب بیت الخلا جائے تو داخل ہونے سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ کہے اور یہ دعا پڑھے

اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ
الْحُبِّثِ وَالْحَبَائِثِ. اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے مردہوں یا عورت۔ (بخاری: ۶۳۲۲)

اور جب بیت الخلا سے نکلے تو یہ دعا پڑھے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ
عَنِّىْ الْاَذَى وَعَافَانِىْ. سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے چھین دیا۔ (ابن ماجہ: ۳۰۱)

جب وضو کرنا شروع کرے تو یہ دعا پڑھے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ (ابوداؤد: ۱۰۱)

جب وضو کر چکے تو یہ دعا پڑھے

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ
اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَابِیْنِ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے اسکا کوئی شریک نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ! مجھے بہت توبہ

وَأَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ. کرنے والوں میں اور خوب پاک رہنے والوں میں شامل فرمادے۔ (ترمذی: ۵۵)

جب مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. اے اللہ! میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ (مسلم: ۱۶۵۲)

مسجد میں بیٹھے بیٹھے یہ دعا پڑھے

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ (الاذکار للنووی: حصہ ۷۷)

جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ. اے اللہ! میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ (مسلم: ۱۶۵۲)

جب اذان کی آواز سنے

تو جو مؤذن کہتا جائے وہی کہے اور حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کے جواب میں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہے۔ (بخاری: ۶۱۱، ۶۱۳)

اور اذان ختم ہونے کے بعد درود پڑھ کر یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اِنِّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُوَسِيْلَةٍ (جو جنت کا ایک درجہ ہے) عطا فرما، اور ان کو

وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثَهُ مَقَامًا
مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَنَّهُ
إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ.^(۱)

فضیلت عطا فرما، اور ان کو اس مقام
محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے
وعدہ فرمایا ہے، بیشک تو وعدہ خلافی نہیں
کرتا ہے۔ (بخاری: ۶۱۳۰ سنن ترمذی: ۱۹۳۳)

فرض نماز کا سلام پھیر کر سر پر داہنا ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ
اِذْهَبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحُزْنَ.^(۱)

میں نے اللہ کے نام کے ساتھ (نماز ختم کی) جس
کے سوا کوئی معبود نہیں (اور) جو رحمن و رحیم ہے،
اے اللہ! تو مجھ سے فکر و رنج کو دور کر دے۔
(مجمع الزوائد منبع الفوائد: ۱۶۹)

پھر تین بار اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ کہے اور یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ
السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ.

اے اللہ! تو سلامت رہنے والا ہے،
اور تجھ ہی سے سلامتی مل سکتی ہے، تو با برکت
ہے اے بزرگی اور عظمت والے!
(نسائی: ۱۷۵۳)

نماز وتر پڑھ کر تین مرتبہ یہ دعا پڑھے

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ.

میں پاکی بیان کرتا ہوں بادشاہ یعنی اللہ کی جو بہت
زیادہ پاک ہے۔ (ابوداؤد: ۱۳۳۰)

تیسری بار با آواز بلند کہے اور اَلْقُدُّوسِ کی دال کو خوب کھینچے۔

(۱) دعا کے یہی الفاظ حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، اس دعا میں کچھ الفاظ لوگوں میں بڑھے ہوئے مشہور ہیں۔

نمازِ فجر اور مغرب کے بعد

رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نمازِ فجر اور نمازِ مغرب کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے اگر سات مرتبہ تم نے

اللَّهُمَّ اجْزِنِي مِنَ النَّارِ (۱) اے اللہ مجھے دوزخ سے محفوظ فرمادے۔
(ابوداؤد: ۵۰۷۹)

پڑھ لیا تو اس دن یا اس رات میں مرجاؤ گے تو تمہاری دوزخ سے ضرور خلاصی ہوگی۔

جب گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
میں اللہ ہی کا نام لیکر نکلا میں نے اللہ پر بھروسہ
کیا گناہوں سے پھرنے اور عبادت کرنے کی
طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ (ترمذی: ۳۳۲۶)

گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ
وَأَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ
وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا
وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.
اے اللہ! میں تجھ سے اچھا داخل ہونا
اور اچھا نکلنا مانگتا ہوں۔ ہم اللہ کا نام
لے کر داخل ہوئے، اور اللہ کا نام لے
کر نکلے، اور ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔
(ابوداؤد: ۵۰۹۶)

اس کے بعد گھر والوں کو سلام کرے۔

جب بازار میں جائے تو یہ دعا پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوا، اے اللہ! میں تجھ
سے اس بازار کی اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس

(۱) دعا کے یہی الفاظ حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، اس دعا میں کچھ الفاظ لوگوں میں بڑھے ہوئے مشہور ہیں۔

خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَخَيْرَ مَا
 فِيهَا وَاعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا
 وَشَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ
 بِكَ أَنْ أَصِيبَ فِيهَا يَمِينًا
 فَاجِرَةً أَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً.

(متدرکِ حاکم: ۱۹۷۷)

جب کھانا شروع کرے تو یہ دعا پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ اللَّهُ
 میں نے اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت سے
 کھانا شروع کیا۔ (متدرکِ حاکم: ۷۰۸۴)

شروع میں بِسْمِ اللَّهِ کہنا بھول گیا تو یاد آنے پر یہ پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ
 میں نے اس کے اول و آخر میں اللہ کا نام لیا۔
 (متدرکِ حاکم: ۷۰۸۹)

حدیث شریف میں ہے کہ جس کھانے پر بِسْمِ اللَّهِ نہ پڑھی جائے شیطان کو
 اس میں ساتھ کھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ (مسلم: ۵۲۵۹)

جب کھانا کھا چکے تو یہ دعا پڑھے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا
 وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
 کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔
 (ترمذی: ۳۳۵۷)

دودھ پی کر یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ. اے اللہ! تو اس میں ہمارے لئے برکت دے
اور یہ ہم کو اور زیادہ نصیب فرما۔ (ترمذی: ۳۳۵۵)

جب کسی کے یہاں دعوت کھائے تو یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ اطْعِمْ مَنْ اطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي. اے اللہ! جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا اور
جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ (مسلم: ۵۳۶۲)

جب میزبان کے گھر سے چلنے لگے تو یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَارَزَقْتَهُمْ وَاعْفِرْ لَهُمْ وَأَرْحَمِهِمْ. اے اللہ! ان کے رزق میں برکت دے، اور
ان کو بخش دے، اور ان پر رحم فرما۔ (ابوداؤد: ۳۷۲۹)

جب روزہ افطار کرے تو یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ. اے اللہ! میں نے تیرے ہی لئے روزہ
رکھا، اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے روزہ کھولا۔ (ابوداؤد: ۲۳۵۸)

افطار کے بعد یہ دعا پڑھے

ذَهَبَ الظَّمْأُ وَأَبْتَلَتِ العُرُوقُ وَيَسَّ جِلْيَانِي وَأُورِثُ رِجْلِي وَرَاحَتِي وَرَاحَتِي وَرَاحَتِي. ان شاء اللہ (تعالیٰ) ثواب ثابت ہو چکا۔

(ابوداؤد: ۲۳۵۷)

اگر کسی کے یہاں افطار کرے تو یہ دعا پڑھے

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ
وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ
وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ
تم ہمارے پاس روزہ دار افطار کریں، اور نیک بندے تمہارا کھانا کھائیں، اور فرشتے تم پر رحمت بھیجیں۔
(ابوداؤد: ۳۸۵۳)

جب کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي
هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ
غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ
سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے۔
(ابوداؤد: ۴۰۲۳)

جب نیا کپڑا پہنے تو یہ کہے

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ
كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَ
خَيْرَ مَا صَنَعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صَنَعَ لَهُ
اے اللہ! تیرے ہی لئے سب تعریف ہے، تو نے ہی یہ کپڑا مجھے پہنایا، میں تجھ سے اس کی بھلائی کا اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لئے یہ بنایا گیا ہے اور میں تجھ سے اس کی بُرائی اور اس چیز کی بُرائی سے پناہ چاہتا ہوں جس کے لئے یہ بنایا گیا ہے۔
(ترمذی: ۱۷۶۷)

جب آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے

الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُمَّ كَمَا حَسَنْتَ
سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں، اے اللہ!

جیسے تُو نے میری صورت اچھی بنائی ہے
میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔

(محل الیوم واللیلیۃ لابن السنی: ۱۶۳)

دولہا کو ان الفاظ سے مبارکباد دے

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ
عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

(ترمذی: ۱۰۹۱)

شب قدر میں یوں دعا مانگے

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تَحِبُّ الْعَفْوَ
فَاعْفُ عَنِّي

اے اللہ! تو معاف فرمانے والا ہے، معافی
کو پسند فرماتا ہے لہذا مجھے معاف فرما دے۔

(ترمذی: ۳۵۱۳)

جب نیا چاند دیکھے تو یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ أَهْلَهُ عَلَيْنَا بِالْيَمِينِ وَ
الْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ
رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ

اے اللہ! تو ہمارے اوپر برکت اور ایمان
اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ اسے نکلا رکھ۔

(اے چاند!) میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔

(ترمذی: ۳۳۵۱)

کسی مسلمان کو ہنستا دیکھے تو یوں دعا دے

أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ

(بخاری: ۳۶۸۳)

اللہ تجھے ہنساتا ہے۔

کسی مریض مسلمان کی عیادت کو جائے تو یوں تسلی دے

لَا بَأْسَ ظَهَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. کچھ ڈر نہیں، ان شاء اللہ یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ (بخاری: ۳۶۱۶)

جب سواری پر بیٹھ جائے تو یہ دعا پڑھے

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. اور ہم اس کی قدرت کے بغیر اسے قبضے میں کرنے والے نہ تھے، اور بلاشبہ ہم کو اپنے رب کی طرف ضرور جاتا ہے۔ (الزخرف: ۱۳، ۱۴)

کسی منزل (ریلوے اسٹیشن، بس اسٹاپ) پر اترے تو یہ دعا پڑھے

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ اللّٰهِ كے پورے کلموں کے واسطے سے اللہ کی پناہ مِّنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. چاہتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے۔ (ترمذی: ۳۳۳۷)

جب قبرستان میں جائے تو یہ دعا پڑھے

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ اے قبروں والو! تم پر سلام ہو۔ اللہ ہماری اور يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے چلے سَلَّمْنَا وَمَحْنُ بِالْآثَرِ گئے اور ہم بعد میں آنے والے ہیں۔

(ترمذی: ۱۰۵۳)

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

نماز پڑھنے کی مکمل ترتیب

تکبیر: اللَّهُ أَكْبَرُ - **ثناء:** سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ - **تَعَوُّذ:** أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ -

تسمیہ: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ **سورۃ الفاتحہ:** الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ آمین **سورۃ الاخلاص:** قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝

اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝
تکبیر: اللَّهُ أَكْبَرُ - **رکوع کی تسبیح:** سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ -

رکوع سے اٹھنے کی تسبیح: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ - **قومہ کی تحمید:** رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ -
تکبیر: اللَّهُ أَكْبَرُ - **سجدہ کی تسبیح:** سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى - **تکبیر:** اللَّهُ أَكْبَرُ -

التحیات: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ
رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ۝ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ۝ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - **درود شریف:** اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ -

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ - **وعا:** رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَةَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۝ رَبَّنَا

وَقَبَّلْ دُعَاءَ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ - **السلام عليك**
ورحمة الله



ایمان مفصل، ایمان مجمل، شش کلمے

ایمان مفصل: اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ **ایمان مجمل:** اَمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبْلَتْ

جَمِيعَ اَحْكَامِهِ اِقْرَارًا بِاللسانِ وَتَصْدِيقًا بِالْقَلْبِ۔ **اول کلمہ طیب:** لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ۔ **دوم کلمہ شہادت:** اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ

لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ۔ **سوم کلمہ تہجد:** سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ

لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

چہارم کلمہ توحید: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ

وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا اذْوَ الْجَلالِ وَالْاِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

پنجم کلمہ استغفار: اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ اَذْنَبْتُهُ عَمْدًا اَوْ خَطَا سِرًّا اَوْ عَلَانِيَةً

وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِيْ اَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنْبِ الَّذِيْ لَا اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلّٰمُ

الْغُيُوْبِ وَسَتّٰرُ الْعُيُوْبِ وَعَفّٰرُ الذُّنُوْبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

ششم کلمہ زہد: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَاَنَا اَعْلَمُ بِهِ وَاَسْتَغْفِرُكَ

لِمَا لَا اَعْلَمُ بِهِ تَبْتُ عَنْهُ وَتَبَرْتُ مِنْ الْكُفْرِ وَالشُّرْكِ وَالْكَذِبِ وَالْغَيْبَةِ وَالْبِدْعَةِ وَالنَّمِيْمَةِ

وَالْفَوَاحِشِ وَالْبُهْتَانِ وَالْمَعَاصِي كُلِّهَا وَاَسَلَمْتُ وَاَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ۔

طبع شدہ رنگین مجلد

تفسیر عثمانی (۲ جلد)	حصن حصین
خطبات الاحکام نجیعات العام	تعلیم الاسلام (مکمل)
الحزب الاعظم (مینی کی ترتیب پر)	خصائل نبوی شرح شمائل ترمذی
الحزب الاعظم (نفتی کی ترتیب پر)	بہشتی زیور (تین حصے)
لسان القرآن (اول، دوم، سوم)	بہشتی زیور (مکمل)
فضائل حج	معلم الحجاج

رنگین کارڈ کور

حیات المسلمین	آداب المعاشرت
تعلیم الدین	زاد السعید
جزاء الاعمال	روضۃ الادب
انجامہ (چھپنا لگانا) (جدید ایڈیشن)	فضائل حج
الحزب الاعظم (مینی کی ترتیب پر) (سبھی)	معین الفلفہ
الحزب الاعظم (نفتی کی ترتیب پر) (سبھی)	خیر الاصول فی حدیث الرسول
مفتاح لسان القرآن (اول، دوم، سوم)	معین الاصول

عربی زبان کا آسان قاعدہ	تیسیر المطلق
فارسی زبان کا آسان قاعدہ	فوائد مکبہ
تاریخ اسلام	بہشتی گوہر
علم الصرف (اولین، آخرین)	علم انجو
عربی صفحہ المصادر	جمال القرآن
جوامع النکم مع چہل ادعیہ مسنونہ	تسہیل المبتدی
عربی کا معلم (اول، دوم، سوم، چہارم)	تعلیم العقائد
نام حق	سیر الصحابیات
کریمیا	پندنامہ
آسان اصول فقہ	صرف میر
تیسیر الایوب	نحو میر
فصول اکبری	میزان و منقشب
نماز مدلل	پنج صورتہ
عم پارہ	سورۃ بیس
عم پارہ درسی	آسان نماز
نورانی قاعدہ (چھوٹا/ بڑا)	منزل
تیسیر المبتدی	

کارڈ کور/مجلد

مفتاح احادیث	مفتاح لسان القرآن (اول، دوم، سوم)
فضائل اعمال	

المطبوعۃ ملونہ مجلدہ

الصحيح لمسلم (۷ مجلدات)	الموطأ للإمام محمد (مجلدين)
الهدایة (۸ مجلدات)	الموطأ للإمام مالك (۳ مجلدات)
التيبان في علوم القرآن	مشكاة المصابيح (۴ مجلدات)
شرح العقائد	تفسير البضاوي
تفسير الجلالين (۳ مجلدات)	تيسير مصطلح الحديث
مختصر المعاني (مجلدين)	المسند للإمام الأعظم
الهدية السعيدية	الحسامي
القضي	نور الأنوار (مجلدين)
أصول الشاشي	كنز الدقائق (۳ مجلدات)
شرح التهذيب	نقحة العرب
تعريب علم الصيغہ	مختصر القدوري
البلاغة الواضحة	نور الإيضاح
ديوان المتنبي	ديوان الحماسة
المقامات الحريرية	النحو الواضح (ابتدائية، ثانوية)
آثار السنن	

ملونہ کروتون مقوي

شرح عقود رسم المفتي	السراجي
متن العقيدة الطحاوية	الفوز الكبير
المرقاة	تلخيص المفتاح
زاد الطالبين	دروس البلاغة
عوامل النحو	الكافية
هداية النحو	تعليم المتعلم
إيساغوجي	مبادئ الأصول
شرح مائة عامل	مبادئ الفلسفة
متن الكافي مع مختصر الشافعي	هداية الحكمت
هداية النحو (مع العلاصة والنمازين)	شرح نخبة الفكر
المعلقات السبع	

ستطیع قریبا بعون اللہ تعالیٰ

ملونہ مجلدہ/ کروتون مقوي

الصحيح للترمذی	الجامع للترمذی
شرح الجامي	مکمل قرآن مجید حافظی ۱۵-اسطری
بیان القرآن (مکمل)	

Books in English

Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1, 2, 3)	Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3)
Key Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3)	Al-Hizbul Azam (Large) (H. Binding)
Al-Hizbul Azam (Small) C Cover)	

Other Languages

Riyad Us Salheen (Spanish) (H. Binding)	Fazail-e-Aamal (German)
Muntakhab Ahdees (German) (H. Binding)	

To be published Shortly Insha Allah

Al-Hizbul Azam (French) (Coloured)

مفتاح احادیث

مفتاح لسان القرآن (اول، دوم، سوم)